

## پیشہ کی

تایا دتہ ویت گہ شہ بکہیت وک یہ کینک له قوتابییه کانی عیسیای مه سیح؟ دتہ ویت یارمہ تی گہ شہ پیدانی باوہردارانیت بدہیت؟ کہواتہ، پیویستہ چوار پرتوکی مہ شق کردنی قوتابییتی بخوینیتہ وہ، پاشان ناوہرؤ کہہ کی به ئہ نجام بگہ یہ نیت! عیسیای مه سیح به خوی ہستا به نامادہ کردنی قوتابییه کانی، ہر وہا به دو قوتابییه کہی یہ حیای له تاوہ لکیش فرمو ﴿وورن و بینن﴾ ہر وہا به فیلیپوسی فرمو ﴿دوام بکہوہ﴾ (یوحنا 1: 39، 43). بہم شیوہ یہ، خد لکی له ہم مو لایہ کہوہ دین بؤ ئہ وہی بینن عیسیای مه سیح چؤن ژیا و ئہ و شتہ چی بو کہ خوی له پیناویدا کردہ قوربانی. ہر وہا له ہم مو ولاتانی جیہان به شوینی دا دہرؤن به ہوی کہ سایہ تی و ئہ و کارہی ئہ نجامیدا. ژیانانی به تہ واوہ تی گؤری.

بہ ئی، عیسیای مه سیح ژیانانی به تہ واوی گؤری. دواتر 12 کہسی ہلہ بژارد بؤ ئہ وہی بہرپر سیاریہ تی قوتابییتی و نامادہ کردنی کہسانیت بگرہ ئہ ستوی خوین، بڑیہ ویستی ئہ و 12 قوتابییه کاتیکی (لہ گہ ل) دا بہ نہ سہر، بؤ ئہ وہی گوی له وتہ کانی بگرن و چاودیژی ژیانانی بکہن و بیکہ نہ نمونہی خوین، چاوی لیبکہن، له شیوازی خزمہ تکرندی (مہرقوس 3: 13-15). پاش نزیکہی 2 سال عیسیای مه سیح کاریکی راسپاردہ قوتابییه کانی و پیانی فرمو ﴿برؤن، ہم مو نہ تہ وہ کان بکہ نہ قوتابی﴾ (مہتا 28: 18-20)، بہ ئی ئہ مانہ رویشتن و قوتابیان بؤ خوداوند نامادہ کرد، له ئورشہ لیم و ہتا دورترین شوینی زوی (کردار 1: 8)، ئہم قوتابییه نویانہ لہ لایہن خوینا وہ ہستان به نامادہ کردنی قوتابییت و چونہ ئہ و شوینانہی کہ پیشتر پھیامی ئینجیلیان پینہ گیشتبو، قوتابییه نویکان ہستان به گہ یاندنی ئہ و فیتر کردنہی کہ فیتری بوون به خہ لکانیت (2 تیمؤساوس 2: 2)، بہم شیوہ یہ، ئہ مرؤ قوتابییه کانی عیسیای مه سیح مہ شق دہ کہن به قوتابییه نویکان له ہم مو ولاتانی جیہاندا.

پؤلسی نیردراو ئہ وہ مان پی رادہ گہ یہ نیت کہ عیسیای مه سیح ہندی کاری گرنگی راسپاردہ باوہرداران:

﴿بؤ تہ واو کردنی پیروز بوون بؤ کاری خزمہت، بؤ بنیادانی لہ شی مه سیح﴾ (ئہ فہسؤس 4: 11-16)

نامانجی چوار پرتوکی مہ شق کردنی قوتابییتی یارمہ تی دانی رابہری گروپی باوہردارانہ بؤ ئہ وہی توانای مہ شق کردنی باوہردارانیت ہ ہیئت و چاودیژیان بکہن تاوہ کو دہ بنہ قوتابی عیسیای مه سیح. مہ بہ ست له ووشہی (قوتابی) باوہرداری پیگہ یشتوہ.

ئہم بہرنامہ یہ کارہ کات لہ سہر ریخہ خستنی قوتابییتی بہ شیوہ یکی کرداری له ریگای پیشکەش کردنی ئہم خالانہی خواروہ بؤ رابہری گروپہ کہ:

1. ہر پرتوکیک لہم چوار پرتوکی مہ شق کردنی قوتابییتی له 12 وانہ پینک ہاتوہ.
2. شایہ تیدان کتیپی پیروز یارمہ تی قوتابییه کان دہدات له ناسینی عیسیای مه سیح و کتیپی پیروز بہ شیوہ یہ کی باشتر.
3. ئہ و زانیاریانہی کہ بہ توخی (Bold) نووسراوہ وہ کو "بخوینہ" و "گفتوگو بکہ" یارمہ تی رابہری گروپہ کہ دہدات له زانیی چوینیتی بہرپوہ بردنی گروپہ کہ.
4. تییینیہ کان وہ لامی کورت دہدہن بؤ ہر پر سیاریک بؤ یارمہ تی دانی رابہری گروپہ کہ.
5. ئہم بہرنامہ یہ ہندی شیوہی کرداری پیشکەش دہ کات بؤ بہ دوادا چوونی قوتابییتی به تہ نہا یا خود لہ گہ ل گروپ.
6. ہم مو وانہ یہ ک ئہر کی مالی له خؤ دہ گریٹ.
7. زؤر ئاسانہ گہ یاندنی ئہم بہرنامہ یہ بؤ خہ لکانیت، بڑیہ لہ پاش تہ واو بوون له یہ کینک لہم پرتوکانہ — پرتوکی مہ شق کردنی قوتابییتی — قوتابییه کان دہ توان وینہ یہ کہ لہ پرتوکی مہ شق کردنی قوتابییتی بہ دہ ست بینن کہ به خوینا خویندیوانہ تہ وہ، بہ مہر جینک ئہ گہر ویستیان بہرنامہی مہ شق کردنی قوتابییتی بؤ کؤمہ لہ یہ کی بچوکیتر پیشکەش بکہن).

نوئیزمان\* بۆ ئیوهی خوْشهویست ئەوهیه که خودا به خیرایی ژمارهی قوتاییهکانی زیاد بکات له شارهکەت و زۆر کەس باوەر به عیسیای مەسیح بێنن (کردار 6:7).  
با ناوی خودا شکۆدار بێت! ﴿چونکه هەموو شتەکان له ئەوه و به هۆی ئەوه و بۆ ئەوه. تاهەتایه شکۆمەندی بۆ ئەوه! تەمبەن﴾  
برۆما 11:36).

دەستەوی مەشق کردنی قوتاییتی DOTA  
2010 (چاپی کوردی)

### یاداشت:

ئامانجی ئامادەکردنی ئەم پەرتووکه به کارهێنانیهتی به شیوهیکی فراوان بۆ ئەوهی ببیتە مایهی بهرەکەت بۆ زۆر کەس، به لām له بهر ئەوهی ئامانجی چوار پەرتووکی مەشق کردنی قوتاییتی مەشق کردنی باوەرداران و ئامادەکردنیانە، تکامان وایه وینەهی چوار پەرتووکی مەشق کردنی قوتاییتی نەدریته قوتاییهکان به لکو تەنھا بدریته رابەری ئەو گروپانەهی که به ژداریان له گەلماندا کردووه.  
سه بارەت به قوتایی، بۆی نییه وینەهی ئەم پەرتووکه وەر بگریت تەنھا پاش تەوا کردنی ئەم خویندنه وهیه، به مەرجیک پێویسته په یمان بدات که که سیکیتەر یا خود گروپیک بچووکیتەر فیربکات.

---

\* نوئیز: دوعا و پارانه وه له خودای مەزن.